

## سنن موکدہ کا حکم

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض اوقات جوہ کے دوران ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے اور ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو کیا ہم ظہر و عصر اور مغرب کی سنن وغیرہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ان کو چھوڑنے کا حکم بھی بیان کر دیں؟

سائل: الیاس فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بعون الملک الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

ظہر کی چار سنت قبلہ، دو بعدیہ اور مغرب کی دو سنت بعدیہ سنن موکدہ میں سے ہیں۔ ان کے چھوڑنے کا حکم یہ ہے کہ بلاعذر ایک بار بھی ترک کرے تو مستحق ملامت ہے اور ترک کی عادت کرے تو فاسق، مردود الشہادۃ، مستحق نار ہے۔ اور بعض ائمہ نے فرمایا: کہ "وہ گمراہ ٹھہرایا جائے گا اور گنہگار ہے، اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے۔ کما فی بہار شریعت الکتب العامۃ۔

لہذا سنت موکدہ ضرور پڑھی جائیں میری معلومات کے مطابق جتنا ٹائم یوکے میں نماز پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں بندہ آسانی کے ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن موکدہ ادا کر سکتا ہے خصوصاً ظہر کی سنت قبلہ و بعدیہ کی تو بہت فضیلت ہے جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "مَنْ رَكَعَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ" جو شخص ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار رکعتوں پر محافظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرما دے گا۔

(سنن النسائي، کتاب قیام اللیل... إلخ، باب الاختلاف علی اسماعیل بن ابي خالد، الحدیث: ۱۸۱۳، ص ۳۱۰)

لیکن اگر کمپنی والے نماز پڑھنے کے لیے بالکل کم وقت دیں جس میں صرف فرائض پڑھے جاسکتے ہوں تو فرائض پڑھے اور سنن کو چھوڑ دے اس صورت میں سنن موکدہ کا چھوڑ ناجائز ہے۔ اور سنن غیر موکدہ جیسے عصر کی چار سنت قبلہ کا حکم نفل جیسا ہے ان کو چھوڑ دینے میں گناہ نہیں ہے اور پڑھنے پر ثواب ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 20-10-2017

## RULING REGARDING *SUNAN MU'AKKADAH* (THE EMPHASISED SUNNAHS)

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### Question:

What do the scholars and muftis of the noble Shari'ah say regarding the following matter; sometimes, we must offer *salah* (the ritual prayer) while on duty and we have less time to do so. Can we leave the *sunnah* prayers of Zuhr, 'Asr and Maghrib (the noon, afternoon and evening prayers respectively) in these situations? Kindly explain the ruling regarding leaving these (*sunnah*) prayers?

Questioner: Ilyas from UK

### Answer:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

The four *rak'ah* (units) before the *fard* (obligatory) *salah* of Zuhr and the two *rak'ah* after it, as well as the two *rak'ah* after the *fard salah* of Maghrib are *sunan mu'akkadah* (emphasised sunnahs). The ruling regarding leaving them is that leaving them even once without any reason is blameworthy. Forming a habit to leave them makes one a *fasiq* (sinner), *mardud al-shahadah* (one whose testimony is not accepted), and deserving of the hellfire. Certain Imams state: "He shall be deemed deviant and he is a sinner, even though his sin is less than the abandoning of a *wajib* (compulsory) act." This ruling is mentioned in Bahar-e Shari'at and can be found in common books of *fiqh* (jurisprudence). Therefore, it is necessary to offer *sunnah mu'akkadah* prayers.

As far as my knowledge goes, in the amount of time given to offer prayers in the UK, a person can easily offer *fard* as well as *sunnah mu'akkadah* prayers.

The *sunnah* prayers before and after the *fard* of Zuhr have a special excellence. Sayyidah Umm Habibah (may Allah be pleased with her) narrates that the Messenger of Allah ﷺ stated:

مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ

Translation: “Whoever prays four *rak’ahs* before Zuhr and four after, Allah, the Mighty and Sublime, will forbid him from the Fire.” [Sunan al-Nasa’i, hadith no. 1813]

However, if the company gives very less time to offer *salah*, during which only *fard* prayers can be offered, then offer only *fard* prayers and leave the *sunnahs*. In such a situation, it is permissible to leave the *sunan mu’akkadah*.

*Sunnah ghair mu’akkadah* (non-emphasised sunnah) prayers like the four *rak’ahs* before ‘Asr have a ruling like that of *nafl* (voluntary) prayers. There is reward in offering them and no sin in leaving them.

والله اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

**Translated by the SeekersPath Team**